

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن
جامعہ ملیہ اسلامیہ

پریس ریلیز

26 جولائی 2020

جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کیریئر گانڈنس اینڈ گلوبل سیٹنگ کے موضوع پر ویبنار کا اہتمام
- ہندوستان عالمی کساد بازاری کے لئے بیک آفس آپریشن ہب بن سکتا ہے
- کورونا وبائی مرض کے دوران / ہیلتھ کیئر / فارما ، آئی ٹی آؤٹ سورسنگ ، اور ٹیلی کام کی صنعت میں
ملازمتوں میں اضافہ

شعبہ کمپیوٹر سائنس ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے 25 جولائی ، 2020 ہفتہ کو کیریئر گانڈنس اور گول سیٹنگ سے
متعلق ویبنار کا اہتمام کیا۔

ویبنار میں 160 سے زائد افراد شریک تھے جن میں ایم سی اے ، بی ٹیک ، ایم بی اے ، ایم ایس سی ، اور
یونیورسٹی کے دیگر پیشہ ور شامل تھے۔ ویبنار کا مقصد طلباء کے کیریئر اور انٹرویو سے متعلق سوالات کو حل
کرنا تھا۔

کلیدی مقررین میں مسٹر پرہات مشرا ، ڈائریکٹر ریکروٹمنٹ آپریشنز انڈیا ، اڈیکو گروپ ، بنگلورو ، اور مسٹر نتن
بحری ، اے وی پی ہیومن ریسورس ، ای ایکس اینا لٹکس ، گڑگاؤں شامل تھے۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق طلباء نے جو ہندوستان بھر کے مختلف ایم این سیز میں اہم عہدوں پر کام کر رہے ہیں
نے ایک پینل ڈسکشن میں بھی شرکت کی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ ایم سی اے کے سابق طلباء مسٹر پرکھر نگم ، ڈیٹا
انجینئر۔ ریڈ بس ، مسٹر نورین رضوی ، ایس ڈی ای امازون ، محترمہ ہرشیتہ جیسوال ، بزنس تجزیہ کار ای ایکس ایل
، محمد عامر مشین لرننگ انجینئر ٹیل ٹکنالوجی پینل میں شامل تھے۔

پروفیسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنے افتتاحی خطاب میں کہا طلباء کی حوصلہ افزائی
کے لئے اس طرح کے پروگرام منعقد ہوتے رہنے چاہئیں۔ انہوں نے ملازمت کی تیاری پر ایک ہفتہ سمر اسکول کے
انعقاد کے لئے یونیورسٹی پلیسمنٹ سیل کی کوششوں کی تعریف کی۔

مسٹر پرہات مشرا نے اس بات پر زور دیا کہ وہ صنعتیں جو کورونا وبائی بیماری کے دوران مواقع فراہم کریں گی
وہ ہیں ہیلتھ کیئر / فارما ، آئی ٹی آؤٹ سورسنگ ، اور ٹیلی کام۔ انہوں نے مزید کہا ہندوستان عالمی کساد بازاری کا
بیک آفس آپریشن ہب بن سکتا ہے۔

مسٹر نتن بحری نے شرکاء کو وقت سے پہلے منصوبہ بندی کرنے ، اہداف کو نوٹ کرنے ، اور اس کے حصول کے
لئے مثبت طریقہ اختیار کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا آپ کسی بھی صورتحال میں مثبت رہیں تو آپ کسی کے
لئے بھی کار آمد ثابت ہو سکتے ہیں اور آپ کو کہیں بھی آسانی سے جگہ مل سکتی ہے۔

ٹرنینگ اینڈ پلیسمنٹ آفیسر پروفیسر آر کے سوری نے زور دے کر کہا کہ سابق طلباء یونیورسٹی کے برانڈ ایمبیسیڈر
ہیں اور ان کا یہ مثبت طرز عمل جامعہ کی ساکھ کو مضبوط کرتا ہے۔

پروفیسر سیمی فرحت بصیر ، ڈین ، فیکلٹی آف نیچرل سائنسز نے ہنر مند آئی ٹی پروفیشنل تیار کرنے پر شعبہ کو
مبارکباد پیش کی۔ پروفیسر ایس ایم کے قادری ، شعبہ کی کامیابیوں اور حصول یابیوں پر روشنی ڈالی۔

چاروں پینلسٹ اور کلیدی مقررین نے صنعت میں مختلف مواقع ، سائبرسیکیورٹی ، ڈیٹا سائنسٹ جیسے موضوعات
پر تبادلہ خیال کیا۔

شرکاء نے فیکلٹی ممبران جن میں پروفیسر خرم مصطفیٰ ، پروفیسر مونیکا مہروترا ، پروفیسر ایس اے ایم رضوی ،
ڈاکٹر منصف عالم ، ڈاکٹر رفعت پروین ، ڈاکٹر سید ذیشان حسین ، پروفیسر نذیر ، ڈاکٹر خالد رضا ، اور ڈاکٹر ترن
سنگھ بھارتی کے ساتھ بھی بات چیت کی۔

پروگرام کی کنویئر ڈاکٹر ثریا جبین نے تمام مہمانوں اور شرکا کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس ایونٹ کو کامیاب بنایا۔

احمد عظیم
پی ار او - میڈیا کوآرڈینیٹر